

Choose the best answer.Cutting overwriting and use of inkremover is not allowed

- 1 Adjoint of matrix $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ is : 1
 a) $\begin{bmatrix} a & -b \\ -c & d \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} -a & b \\ c & -d \end{bmatrix}$ a) $\begin{bmatrix} a & -b \\ -c & d \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} -a & b \\ c & -d \end{bmatrix}$
 c) $\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$
- 2 Real part of complex number $2ab(i + i^2)$ is: 2
 a) $-2abi$ b) $2abi$ a) $-2abi$ b) $2abi$
 c) $-2ab$ d) $2ab$ c) $-2ab$ d) $2ab$
- 3 Scientific Notation of 0.0643 is : 3
 a) 6.43×10^{-2} b) 64.3×10^{-2} a) 6.43×10^{-2} b) 64.3×10^{-2}
 c) 64.3×10^{-4} d) 6.43×10^{-4} c) 64.3×10^{-4} d) 6.43×10^{-4}
- 4 The degree of polynomial $4x^4 + 2x^2y$ is : 4
 a) 1 b) 2 a) 1 b) 2
 c) 3 d) 4 c) 3 d) 4
- 5 The factor of $x^2 - 5x + 6$ are : 5
 a) $x + 1, x - 6$ b) $x - 2, x - 3$ a) $x + 1, x - 6$ b) $x - 2, x - 3$
 c) $x + 6, x - 1$ d) $x + 2, x + 3$ c) $x + 6, x - 1$ d) $x + 2, x + 3$
- 6 H.C.F. of $x - 2$ and $x^2 + x - 6$ is : 6
 a) $x^2 + x - 6$ b) $x + 3$ a) $x^2 + x - 6$ b) $x + 3$
 c) $x - 2$ d) $x + 2$ c) $x - 2$ d) $x + 2$
- 7 If the capacity c of an elevator is at most 1600 pounds, then : 7
 a) $c < 1600$ b) $c \geq 1600$ a) $c < 1600$ b) $c \geq 1600$
 c) $c \leq 1600$ d) $c > 1600$ c) $c \leq 1600$ d) $c > 1600$
- 8 The point (- 2 , - 3) lies in quadrant : 8
 a) I b) II a) I b) II
 c) III d) IV c) III d) IV
- 9 How many angles are equal to 90° in right angle triangle? 9
 a) 1 b) 2 a) 1 b) 2
 c) 3 d) None of these c) 3 d) None of these
- 10 The symbol for line segment is: 10
 a) $\overline{\quad}$ b) $\overrightarrow{\quad}$ a) $\overline{\quad}$ b) $\overrightarrow{\quad}$
 c) \leftrightarrow d) \perp c) \leftrightarrow d) \perp
- 11 The symbol of parallelogram is: 11
 a) II b) II gm a) II b) II gm
 c) gm II d) \cong c) gm II d) \cong
- 12 Any point inside an equidistant from its arms, is on the bisector of it: 12
 a) Side b) Angle a) زاویہ (Angle) b) زاویہ (Angle)
 c) Triangle d) Circle c) شکل (Shape) d) دائرہ (Circle)
- 13 Equality of two ratios is defined as: 13
 a) Ratio b) Proportion a) نسبت (Ratio) b) نسبت (Ratio)
 c) Directly proportion d) Inverrly proportion c) راست تناوب (Proportionality) d) معمول تناوب (Proportionality)
- 14 Area of is equal to (base \times alitude). 14
 a) Parallelogram b) Triangle a) متساوية الأضلاع (Parallelogram) b) متساوية الأضلاع (Parallelogram)
 c) Square d) None of these c) مربع (Square) d) مربع (Square)
- 15 If the three alitudes of a triangle are congruent, then the triangle is : 15
 a) Isosceles b) Equilateral a) متساوية الأضلاع (Equilateral triangle) b) متساوية الأضلاع (Equilateral triangle)
 c) Right angled d) Acute angled c) قاعدة الزاوية (Right-angled triangle) d) قاعدة الزاوية (Right-angled triangle)